

15th October, 2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: Notice of Election of Directors (Pre-Publication)

Dear Sir,

In accordance with Clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of the notice to shareholders of International Packaging Films Limited, prior to its publication in the newspapers. The enclosed notice is scheduled to be published on Thursday, October 16, 2025.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For International Packaging Films Limited



Fahad Alam
Company Secretary

REGISTERED OFFICE

Plot # 40-L-1, P.E.C.H.S, Block 6, Near Jason
Trade Centre, Karachi 75400, Pakistan.
+922134384044, +9234348046 +922134384048

PLANT

IPAK Plant, Manga Chowk, Raiwind, Bypass Road,
Raiwind District, Lahore 55150, Pakistan.
+924235398166, +924235398167

ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, members are hereby informed that the following persons have filed notices of their intention with the Company to offer themselves for election as Director at the 10th Annual General Meeting of the International Packaging Films Limited to be held on Thursday, October 23, 2025 at 9.30 a.m. at PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Muhammed Amin | 6. Mr. Aftab Zahoor Raja |
| 2. Mr. Naveed Godil | 7. Mr. Arsalan Pirani |
| 3. Ms. Saira Nasir | 8. Mr. Fazal ul Rehman |
| 4. Mr. Saad Amanullah Khan | 9. Mr. Mushtaq Ali Tejani |
| 5. Mr. Sarfaraz Ahmed Rehman | 10. Mr. Taimoor Iqbal |

Since the number of persons, who have offered themselves to be elected, is not more than the number fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named ten (10) persons shall deem to be elected at the 10th Annual General Meeting on October 23, 2025, for the term starting for October 31, 2025.

Sd -

Fahad Alam
Company Secretary

Karachi: October 16, 2025

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مورخہ 23 اکتوبر 2025 بروز جمعرات بوقت صبح 9:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقدہ انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ کے دسویں سالانہ اجلاس عام میں مندرجہ ذیل حضرات نے بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کیلئے اپنے ارادے کمپنی میں جمع کروائے ہیں۔

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. جناب محمد امین | 2. جناب نوید گوڈیل |
| 3. محترمہ سائرہ ناصر | 4. جناب سعدا مان اللہ خان |
| 5. جناب سرفراز احمد رحمان | 6. جناب آفتاب ظہور راجہ |
| 7. جناب ارسلان پیرانی | 8. جناب فضل الرحمن |
| 9. جناب مشتاق علی تیجانی | 10. جناب تیمور اقبال |

چونکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش ہونے والے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ کی مقرر کردہ تعداد سے زائد نہیں ہے، لہذا مندرجہ بالا دس (10) افراد کو مورخہ 23 اکتوبر 2025 کو منعقدہ دسویں سالانہ اجلاس عام میں 31 اکتوبر 2025 سے شروع ہونے والی مدت کے لیے منتخب تصور کیا جائے گا۔

فہد عالم
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 16 اکتوبر 2025